

Urdu (اردو)

تعارفی رسومات

صلیب کی علامت

باپ ، اور بیٹ اور روح القدس ک نام پر

آمین

سلام

مار خداوند یسوع مسیح کا فضل ، اور خدا کی محبت ، اور روح القدس کی میل جول آپ سب ک ساتھ ریں

اور اپنی روح ک ساتھ

تذلیل کا ایکٹ

بھائیو (بھائیو اور بھینس) ، آئی م اپن گناہوں کو تسلیم کریں ، اور اس طرح مقدس اسرار کو منان ک لئ خود کو تیار کریں

میں اللہ تعالیٰ سے اعتراف کرتا ہوں اور آپ ک لئ ، میرے بھائیو اور بھینس ، ک میں نے بت گناہ کیا ، میرے خیالات میں اور میرے الفاظ میں ، میں نے کیا کیا اور میں کیا کرنے میں ناکام رہا ہوں ، میری غلطی ک ذریعہ ، میری غلطی ک ذریعہ ، میری انتہائی تکلیف دہ غلطی ک ذریعہ ؛ لہذا میں مبارک مریم کو ہمیشہ ک ویرگین سے پوچھتا ہوں ، تمام فرشتے اور سنت ، اور آپ ، میرے بھائیو اور بھینس ، میرے لئ خداوند مار خدا سے دعا کرنا

اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر ، مار گناہوں کو معاف کرو ، اور ہمیں لازوال زندگی میں لائیں

آمین

French (Français)

Rites d'introduction

Signe de la croix

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Amen

Salutation

La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Et l'amour de Dieu, Et la communion du Saint-Esprit Soyez avec vous tous.

Et avec votre esprit.

Acte pénitentiel

Frères (frères et sœurs), reconnaissons nos péchés, Et alors préparez-nous à célébrer les mystères sacrés.

J'avoue à Dieu Tout-Puissant Et à toi, mes frères et sœurs, que j'ai beaucoup péché, Dans mes pensées et dans mes mots, Dans ce que j'ai fait et dans ce que je n'ai pas fait, à travers ma faute, à travers ma faute, à travers ma faute la plus grave; Par conséquent, je demande à Mary bénie jamais virgin, tous les anges et saints, Et toi, mes frères et sœurs, pour prier pour moi au Seigneur notre Dieu.

Que Dieu tout-puissant ait pitié de nous, pardonne-nous nos péchés, Et nous amène à une vie éternelle.

Amen

Urdu (اردو)

کیری

رب رحم کر

رب رحم کر

مسیح، رحم کرو.

مسیح، رحم کرو.

رب رحم کر

رب رحم کر

گلوریا

سب سے زیادہ خدا کی شان، اور
زمین پر اچھے لوگوں کے لیے امن
م تیری تعریف کرتے ہیں، م آپ
کو برکت دیتے ہیں، م آپ کو
پسند کرتے ہیں، م تیری تسبیح
کرتے ہیں، م تیری عظیم شان کے
لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، خُداوند
خُدا، آسمانی بادشاہ، ا خدا، قادر
مطلق باپ خُداوند یسوع مسیح،
اکلوتا بیٹا، خُداوند خُدا، خُدا کا بر،
باپ کا بیٹا، آپ دنیا کے گناہوں کو
دور کرتے ہیں، م پر رحم فرما آپ
دنیا کے گناہوں کو دور کرتے ہیں،
ماری دعا قبول کرو تم باپ کے
دائیں ہاتھ بیٹھو، م پر رحم
فرما۔ آپ کے لیے اکیلی ہی مقدس
ہیں، صرف تُو ہی رب صرف
آپ ہی اعلیٰ ترین ہیں حضرت
عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس
کے ساتھ، خدا باپ کے جلال میں
آمین

جمع کریں

میں نماز پڑھ دو.

آمین

کلام کی کٹائی

پہلا پڑھنا

رب کا کلام

خدا کا شکر .

French (Français)

Kyrie

Le Seigneur a pitié.

Le Seigneur a pitié.

Christ, ayez pitié.

Christ, ayez pitié.

Le Seigneur a pitié.

Le Seigneur a pitié.

Gloria

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et
sur terre la paix aux gens de bonne
volonté. Nous vous louons, Nous vous
bénédissons, Nous vous adorons, Nous
vous glorifions, Nous vous remercions
pour votre grande gloire, Seigneur Dieu,
roi céleste, O Dieu, Père Tout-Puissant.
Seigneur Jésus-Christ, seulement
engendré Fils, Seigneur Dieu, agneau de
Dieu, fils du Père, Vous enlevez les
péchés du monde, ayez pitié de nous;
Vous enlevez les péchés du monde,
recevoir notre prière; Vous êtes assis à la
droite du père, ayez pitié de nous. Car
vous seul êtes le Saint, Vous seul êtes le
Seigneur, Vous seul êtes le plus élevé,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, Dans la
gloire de Dieu le Père. Amen.

Recueillir

Nous laisse prier.

Amen.

Liturgie du mot

Première lecture

La parole du Seigneur.

Grâce à Dieu.

Urdu (اردو)

ذم داری زیور

دوسری پڑھنا

رب کا کلام

خدا کا شکر

انجیل

رب آپ کے ساتھ و

اور اپنی روح کے ساتھ

کے مطابق مقدس انجیل سے ایک N

پڑھنا

ا رب، تیری شان

خداوند کی انجیل

خداوند یسوع مسیح آپ کی

ستائش کریں

ایمان کا پیشہ

میں ایک خدا کو مانتا ہوں، قادر مطلق باپ، آسمان اور زمین کا بنا، والا، ظاہر اور پوشیدہ تمام چیزوں میں سے میں ایک خداوند یسوع مسیح پر یقین رکھتا ہوں، خدا کا اکلوتا بیٹا، تمام عمروں سے پہلے باپ سے پیدا ہوا خدا سے خدا، روشنی سے روشنی، سچا خدا سے سچا خدا، پیدا ہوا، نہیں بنایا گیا، باپ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اُس کے ذریعے تمام چیزیں بنی تھیں ہمارے آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے لیے اور آسمان سے نیچے آیا، اور روح القدس کے ذریعے کنواری مریم کا اوتار تھا، اور انسان بن گیا۔ ہماری خاطر و پونٹیس پیلطس کے تحت مصلوب ہوا، اس کی موت ہوئی اور اسے دفن کیا گیا اور تیسرے دن دوبارہ جی اٹھا صحیفوں کے مطابق و آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا و پھر جلال میں آئے گا زند اور

French (Français)

Psaume responsable

Deuxième lecture

La parole du Seigneur.

Grâce à Dieu.

Gospel

Le seigneur soit avec vous.

Et avec votre esprit.

Une lecture du Saint Gospel selon N.

Gloire à toi, ô Seigneur

L'Évangile du Seigneur.

Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.

Profession de foi

Je crois en un seul Dieu, le père Tout-Puissant, fabricant du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. Je crois en un Seigneur Jésus-Christ, le seul fils de Dieu engendré, Né du Père avant tous les âges. Dieu de Dieu, Lumière de la lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré, non fait, consubstantiel avec le père; À travers lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel, et par le Saint-Esprit était incarné de la Vierge Marie, et est devenu homme. Pour notre bien, il a été crucifié sous Pont Pilate, Il a subi la mort et a été enterré, et Rose à nouveau le troisième jour conformément aux Écritures. Il est monté dans le ciel et est assis à la droite du père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts Et son royaume n'aura aucune fin. Je crois au Saint-Esprit, le Seigneur, le donateur de la vie, qui procède du père et du fils, qui avec le père et le fils

Urdu (اردو)

مرد کا فیصلہ کرنا اور اس کی
بادشاہی کی کوئی انتہا نہ ہوگی
میں روح القدس پر یقین رکھتا
ہوں، خداوند، زندگی دینے والا، جو
باپ اور بیٹے سے نکلتا ہے، جو باپ
اور بیٹے کے ساتھ سجد اور جلالی
ہے، جس نے نبیوں کے ذریعے کلام
کیا ہے، میں ایک، مقدس، کیتھولک
اور رسولی چرچ پر یقین رکھتا
ہوں۔ میں گناہوں کی معافی کے
لیے ایک بپتسمہ کا اقرار کرتا ہوں
اور میں مردوں کے جی اٹھنے کا
منتظر ہوں اور آئے والی دنیا کی
زندگی آمین

homily

عالمگیر دعا

م رب سے دعا کرتے ہیں

اے رب، ہماری دعا سن

یوکرست کی لیٹورجی

آفرٹری

خدا ہمیشہ کے لیے مبارک ہو
دعا کرو، بھائیو (بھائیو اور بہنو)،
کہ میری اور تمہاری قربانی ہو
سکتا ہے اللہ کو قبول ہو قادر
مطلق باپ۔

رب آپ کی قربانی قبول فرمائے
اس کے نام کی تعریف اور جلال کے
لیے، ہماری بھلائی کے لیے اور اس
کے تمام مقدس چرچ کی بھلائی
آمین

یوکرستک دعا

رب آپ کے ساتھ ہو

اور اپنی روح کے ساتھ

اپنے دلوں کو اٹھاؤ

م اُن کو رب کی طرف اٹھاتے

ہیں

French (Français)

est adoré et glorifié, qui a parlé à travers
les prophètes. Je crois en une église
sainte, catholique et apostolique. J'avoue
un baptême pour le pardon des péchés
Et j'attends avec impatience la
résurrection des morts et la vie du
monde à venir. Amen.

Homélie

Prière universelle

Nous prions le Seigneur.

Seigneur, écoute notre prière.

Liturgie de l'Eucharistie

Offertoire

Béni soit Dieu pour toujours.

Priez, frères (frères et sœurs), que mon
sacrifice et le vôtre peut être acceptable
pour Dieu, Le Père Tout-Puissant.

Que le Seigneur accepte le sacrifice de
vos mains pour la louange et la gloire de
son nom, Pour notre bien et le bien de
toute sa sainte église.

Amen.

Prière eucharistique

Le seigneur soit avec vous.

Et avec votre esprit.

Soulevez vos cœurs.

Nous les soulevons vers le Seigneur.

Urdu (اردو)

آئیے ہم رب اپنے خدا کا شکر ادا کریں

یہ صحیح اور منصفانہ
پاک، مقدس، پاک رب الافواج
آسمان و زمین تیرے جلال سے
معمور ہیں حسنہ اعلیٰ میں
مبارک و جو خداوند کے نام پر
آتا حسنہ اعلیٰ میں

ایمان کا راز

ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں
اے رب! اور اپنی قیامت کا دعویٰ
کریں جب تک آپ دوبارہ نہ آئیں
یا: جب ہم یہ روٹی کھاتے ہیں اور
یہ پیالہ پیتے ہیں، ہم تیری موت کا
اعلان کرتے ہیں، اے رب، جب تک
آپ دوبارہ نہ آئیں یا: ہمیں بچا،
دنیا کے نجات دہندے، آپ کی صلیب
اور قیامت کی طرف سے آپ نے
میں آزاد کیا

آمین

اجتماعی رسم

نجات دہندے کے حکم پر اور خدائی
تعلیم کے ذریعے تشکیل دیا گیا،
ہم یہ کہنے کی جسارت کرتے ہیں:
ہمارے باپ، جو آسمان پر ہیں،
مقدس تیرا نام: تیری بادشاہی
آئیے، آپ کی مرضی پوری ہو جائے
گی زمین پر جیسا کہ آسمان میں
آج کے دن میں ہماری روز
کی روٹی دے، اور ہماری خطائیں
معاف فرما، جیسا کہ ہم ان
لوگوں کو معاف کرتے ہیں جو
ہمارے خلاف گناہ کرتے ہیں اور
میں آزمائش میں نہ ڈال، لیکن
میں برائی سے بچا

ہمیں برائی سے نجات دے، اے
رب، ہم دعا کرتے ہیں، مہربانی
سے ہمارے دنوں میں امن عطا

French (Français)

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.

C'est juste et juste.

Saint, Saint, Saint-Seigneur Dieu des
hôtes. Le paradis et la terre sont pleins
de votre gloire. Hosanna au plus haut.
Béni est celui qui vient au nom du
Seigneur. Hosanna au plus haut.

Le mystère de la foi.

Nous proclamons ta mort, ô Seigneur, et
professe votre résurrection Jusqu'à ce
que vous revoyiez. Ou: Quand nous
mangeons ce pain et buvons cette tasse,
Nous proclamons ta mort, ô Seigneur,
Jusqu'à ce que vous revoyiez. Ou: Sauve-
nous, Sauveur du monde, pour votre
croix et votre résurrection Vous nous
avez libérés.

Amen.

Rite de communion

À la commande du Sauveur Et formé par
l'enseignement divin, nous osons dire:

Notre Père, qui est dans le ciel, que ton
nom soit sanctifié; Ton royaume vient, ta
volonté soit faite sur terre telle qu'elle
est dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien, et pardonne-nous
nos intrusions, alors que nous
pardonnons à ceux qui empruntaient
contre nous; et ne nous soumet pas à la
tentation, mais délivrez-nous du mal.

Donnez-nous, Seigneur, nous prions, de
chaque mal, accorder gracieusement la
paix à nos jours, que, par l'aide de votre

Urdu (اردو)

فرما، ک تیری رحمت سے ہم
میشہ گنا سے آزاد ہو سکتے
ہیں اور تمام پریشانیوں سے
محفوظ جیسا کہ ہم مبارک امید کا
انتظار کر رہے ہیں اور ہمارے
نجات دہندے، یسوع مسیح کی آمد
بادشاہی کے لیے، طاقت اور جلال
آپ کا اب ہمیشہ کے لیے۔

خداوند یسوع مسیح، جس نے آپ
کو رسولوں سے کہا: امن میں آپ
کو چھوڑتا ہوں، اپنا امن میں آپ
کو دیتا ہوں، ہمارے گناہوں کو مت
دیکھو لیکن آپ کے چرچ کے ایمان
پر، اور فضل سے اس امن اور
اتحاد عطا فرمائے، آپ کی مرضی
کے مطابق جو ہمیشہ اور اب تک
زندہ اور حکومت کرتے ہیں
آمین

خداوند کی سلامتی ہمیشہ آپ کے
ساتھ رہے
اور اپنی روح کے ساتھ
آئیے ایک دوسرے کو امن کا نشان
پیش کریں
خدا کے برے، تم دنیا کے گناہوں کو
دور کرتے ہو، ہم پر رحم فرما۔ خدا
کے برے، تم دنیا کے گناہوں کو دور
کرتے ہو، ہم پر رحم فرما۔ خدا کے
برے، تم دنیا کے گناہوں کو دور کرتے
ہو، ہمیں امن عطا فرما۔
خدا کے برے کو دیکھو، اس کو
دیکھو جو دنیا کے گناہوں کو لے جاتا
مبارک ہیں وہ لوگ جو برے کے
عشائیر کے لیے بلائے گئے ہیں
اے رب، میں اس لائق نہیں ہوں
کہ تم میری چہت کے نیچے داخل
ہو، لیکن صرف لفظ کے ساتھ اور
میری جان ٹھیک ہو جائے گی

French (Français)

miséricorde, Nous pouvons être toujours
exempts de péché et à l'abri de toute
détresse, Alors que nous attendons
l'espoir béni et la venue de notre
Sauveur, Jésus-Christ.

Pour le royaume, La puissance et la
gloire sont à vous maintenant et pour
toujours.

Seigneur Jésus-Christ, Qui a dit à vos
apôtres: Paix je te laisse, ma paix je te
donne, ne regarde pas sur nos péchés,
Mais sur la foi de votre église, et accorde
gracieusement sa paix et son unité
conformément à votre testament. Qui
vivent et règnent pour toujours et à
jamais.

Amen.

La paix du Seigneur soit toujours avec
vous.

Et avec votre esprit.

Offrons-nous mutuellement le signe de la
paix.

Agneau de Dieu, vous enlevez les péchés
du monde, ayez pitié de nous. Agneau
de Dieu, vous enlevez les péchés du
monde, ayez pitié de nous. Agneau de
Dieu, vous enlevez les péchés du monde,
accordez-nous la paix.

Voici l'Agneau de Dieu, Voici celui qui
enlève les péchés du monde. Béni sont
ceux appelés au souper de l'agneau.

Seigneur, je ne suis pas digne que tu
devrais entrer sous mon toit, Mais dire
seulement le mot et mon âme sera
guéri.

Urdu (اردو)

مسیح کا جسم (خون)
آمین
میں نماز پڑھ دو.
آمین
اختتامی رسومات
برکت

رب آپ کے ساتھ و
اور اپنی روح کے ساتھ
قادر مطلق خدا آپ کو خوش
رکھ، باپ، اور بیٹا، اور روح
القدس
آمین
برطرفی

آگ بڑھو، اجتماع ختم ہو گیا
یا: جاؤ اور خداوند کی انجیل کا
اعلان کرو یا: سکون سے جاؤ،
اپنی زندگی سے خداوند کی تمجید
کرو یا: سکون سے جاؤ
خدا کا شکر .

French (Français)

Le corps (sang) du Christ.
Amen.

Nous laisse prier.
Amen.

Rites concluant

Bénédiction

Le seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, Le
Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Amen.

Congédiement

Allez-y, la masse est terminée. Ou: allez
annoncer l'Évangile du Seigneur. Ou:
Allez en paix, glorifiant le Seigneur par
votre vie. Ou: allez en paix.

Grâce à Dieu.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC